



سوال

(140) جو صرف جمعہ پڑھے اور کوئی نماز نہ پڑھے تو کیا وہ کافر ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

- 1- جو آدمی نماز جمعہ پڑھتا ہے، باقی کوئی نماز نہیں پڑھتا کیا ایسا آدمی کافر ہے؟
- 2- کیا ایسا کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا یا کلمہ توحید کی وجہ سے دوزخ سے نکال لیا جائے گا؟
- 3- کیا ایسے آدمی کو سلام کہنا چاہیے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَهُوَ جَبَّ عَمَلُهُ» 1

”جس نے نماز عصر چھوڑی تو اس کا عمل جبط ہو گیا۔“

اس حدیث سے ثابت ہوا اس کا جمعہ جبط ہے۔ آپ کی شقوق ثلاثہ سے دو کا جواب تو اس حدیث میں بیان ہو گیا ہے۔ رہی تیسری شق تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے سلام کہنا چاہیے کیونکہ ظاہر میں وہ اپنے آپ کو مسلم کہتا اور کہتا ہے۔ پھر عبد اللہ بن ابی اسلول اور اس کے ساتھیوں کا حکم معلوم ہی ہے وہ کلمہ بلکہ نماز بھی پڑھتے تھے تو ثابت ہوا کہ انسان کے اندر کفر موجود ہو تو کلمہ توحید اسے نجات نہیں دلائے گا۔

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 09 ص

